



فرج اور مقعد کا درمیانی حصہ پھٹنا (پیرینیئل ٹپیر)

پہلے چھ بفتے

آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد پہلے چھ بفتے پٹھوں اور نرم ٹشوز کی حالت بحال کرنے کے لیے اب میں۔

آرام

شروع کے چند دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے، لیٹھی رہیں۔ اس سے سوجن اور رحمت میں کمی آئے گی۔ بچے کی پیدائش کے بعد پہلے چھ بفتون میں روزانہ صبح اور دوپہر کو ایک ایک گھنٹا لیٹھے کا بڈ رکھیں۔

برف

اگر آپ کو فرج اور مقعد کے درمیانی حصے میں سوجن یا درد ہو تو پٹھ کے اندر آنس پیک رکھ کر 20 یا 30 منٹ کے لیے لگالیں۔ یہ یقینی بنائیں کہ آنس پیک آپکی جلد کو نہ چھو رہا ہو۔ جس دوران آپ جاگ رہی ہوں، بر دو سے تین گھنٹے بعد اس طرح آنس پیک استعمال کریں۔

کمپریشن (دوران خون بڑھانے والا لباس)

مضبوط اور سہارا دینے والا انڈروئر جیسے شیپ ویئر یا کمپریشن والا زیر جامہ اس حصے کو سہارا دے گا اور سوجن میں کمی آ سکتی ہے۔

ورزش

پیلوک فلور (نچلے پوشیدہ اعضاء) کی ورزشیں فرج اور مقعد کے درمیانی حصے کو خون کی فراہمی بڑھاتی ہیں جو زخم مندلہ ہونے کے لیے اب ہے۔ بچے کی پیدائش کے ایک یا دو دن بعد یہ ورزشیں شروع کر دینا محفوظ ہے۔ یہ اب ہے کہ آپ پیلوک فلور اور فرج اور مقعد کے درمیانی حصے کے پٹھوں سے زور نہ لگائیں۔ قبض، بھاری چیزیں اٹھانے (جیسے بڑے بچے، خریداری کے تھیے، دھلنے والے کپڑوں کی ٹوکریاں وغیرہ) اور اچھانے اور دوڑنے والی ورزش سے گریز کریں۔

غذا

اگر آپکو تیسرے یا چوتھے درجے کا ٹپیر پیش آیا ہے تو آپ کو پہلے سات سے دس دنوں میں کم فائزر (غذائی ریشے) والی غذا کھانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس طرح آپ کی پاخانہ کرنے کی ضرورت کم ہو جائے گی اور متاثرہ حصے پر کم دباؤ پڑے گا۔ ٹپیر ٹپیک ہونے کے دوران قبض سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غذا کے ساتھ پاخانہ نرم کرنے والی کونٹی بلکی دوا لی جائے۔ آپکے بسپنال سے جانے سے پہلے ڈائٹیشن آپکو غذا کے بارے میں بتائے گا/گی۔ دس دن بعد بتدریج زیادہ فائزر والی غذا شروع کریں تاکہ آپ کا پاخانے کا فعل واپس نارمل ہو جائے۔

جنسی فعل


جب تک پیرینیئل کلینک میں آپکی خبرگیری کے لیے پہلی اپائٹمنٹ نہ ہو جائے، جنسی فعل (سیکس) سے گریز کرنا چاہیے۔

تیسرا یا چوتھے درجے کے ٹپیر (پھٹے) سے کیا مراد ہے؟

بعض دفعہ فرج کے راستے پیدائش کے دوران، فرج اور مقعد کا درمیانی حصہ پھٹ سکتا ہے جسے ٹپیر کہتے ہیں۔

- تیسرا یا چوتھے درجے کے ٹپیر میں مقعد کا چھلہ (پٹھوں کا گروہ جو مقعد کا راستہ کھانے کو کنٹرول کرتا ہے) جزوی طور پر پھٹ جاتا ہے۔

- چوتھے درجے کے ٹپیر میں مقعد کے چھلے اور مقعد کے اندر وہی راستے کو نقصان پہنچتا ہے۔



ٹپیر کے بعد آپ کی دیکھ بھال

ایک ڈاکٹر آپ کو بتائے گا/گی کہ آپ کا ٹپیر کس قسم کا ہے اور آپ اپنی دیکھ بھال کیسے کریں گے۔ ڈاکٹر درد کم کرنے، قبض کی روک تھام اور انفیکشن کا خطرہ کم کرنے کے لیے دوائیاں تجویز کرے گا/گی۔

وہ دوائیاں نہ لیں جنہیں مقعد کے اندر ڈالنا پڑتا ہے۔

فریبوتھر اپسٹ، مڈوانف، فارماسیٹ اور بعض صورتوں میں ڈائٹیشن (ماہر غذائیت) بھی آپ کی دیکھ بھال میں شامل ہوں گے۔ وہ آپ کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ:

- قبض سے کیسے بچا جائے (آپ کو خاص غذا کی ضرورت ہو سکتی ہے)

- آپکے زخم کو مندل بونے میں مدد کیسے دی جائے
- درد سے آرام اور سوجن میں کمی کے لیے برف کیسے استعمال کی جائے

- کیسے نہایا جائے اور متاثرہ حصے کو صاف کیسے رکھا جائے
- پیلوک فلور (نچلے پوشیدہ اعضاء) کی ورزشیں کیسے کی جائیں اور یہ ورزشیں کب شروع کی جائیں۔

بحالی صحت کا پروگرام - تیسرا سے چھٹے بفتے تک اپنے ورزش کے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے زیادہ سختی سے اور زیادہ دیر کے لیے پڑھ کسیں۔ بہار پانچ سے دس سیکنڈ تک کسے رکھنے اور دس بار دربانے کا بدھ رکھیں۔ روزانہ تین بار مختلف پوزیشنوں میں ہے ورزش دبرائیں جیسے بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ اور کھانستے ہوئے یا کوئی چیز اٹھاتے ہوئے بھی پیلوک فلور کے پڑھ کسیں۔

بڑی آنت کا نارمل فعل

قبض اور ٹالٹ میں زور لگانے کی وجہ سے آپ کا پیلوک فلور کمزور ہو سکتا ہے۔ پاخانے کی اچھی عادات سے آپ کو اپنے پیلوک فلور کی حفاظت میں مدد ملے گی اور پیشاب اور پاخانے دونوں کے اخراج پر قابو نہ رہنے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔


- اگر آپ کم فائبر والی غذا استعمال کرتی رہی ہیں تو اپنی غذا میں بتدریج فائبر کی مقدار بڑھانیں۔
- زیادہ فائبر والی غذاؤں میں پھل، سبزیاں، سالم اناج، پرونز (خشک آلو بخارا) اور فائبر والے قدرتی سپلیمنٹ جیسے چھلکا اسیغول شامل ہیں
- روزانہ 1.5 سے 2 لیٹر پانی پیش۔
- روزانہ ورزش مثلاً پیدل چلنے کا لطف اٹھانیں۔
- ٹالٹ جانے کی حاجت کو نظر انداز نہ کریں
- ٹالٹ میں آرام سے وقت لگائیں تاکہ یہ یقینی ہو جائے کہ آپ پوری طرح فارغ ہو گئی ہیں۔

جب آپ ٹالٹ میں ہوں:


- پیروں کے نیچے جھوٹا سٹول رکھیں تاکہ آپ کے گھٹے کولہوں سے اوپر رہیں
- آگے کو جھک کر بیٹھیں، پیروں کے درمیان فاصلہ ہو اور کہنیاں گھٹھوں پر دھری ہوں
- پیٹ کو ڈھیلا ہونے دیں
- سانس نہ روکیں۔ گھرے سانس لیں یا سسکاری سے سانس چھوڑیں
- بالخصوص پاخانہ کرتے ہوئے اپنے ٹانکوں کو باتھے سے سہارا دیں۔



پیلوک فلور (نچلے پوشیدہ اعضا) کے پڑھوں کی ورزشیں پیلوک فلور کے پڑھے پیڑو کے اندر گہرائی میں واقع پڑھوں کا ایک اہم گروہ ہیں۔ یہ پڑھے پیڑو کے اعضا کو سہارا دیتے ہیں اور آپ کو مثانے اور بڑی آنت کے فعل پر کنٹرول دلاتے ہیں۔ ہے ورزشیں بچے کی پیدائش کے بعد آپ کی بحالی صحت کے لیے اہم ہیں۔



بلکا پروگرام دوسرا سے پانچویں دن تک کمر کے بل لیٹ کر گھٹھے موڑ لیں یا کروٹ پر لیٹ جائیں۔



نرمی سے اپنے فرج اور مقعد کے گرد پڑھوں کو کسیں۔ یوں لگنا چاہیے کہ آپ ان سوراخوں کو بند کر رہی ہیں۔ اگر ذرا بھی درد ہو تو رک جائیں۔ تین سیکنڈ تک پڑھے کسے رکھیں، پھر آستنگی سے چھوڑ دیں۔ پانچ سیکنڈ آرام کریں اور پھر 10 بار یہی ورزش دبرائیں۔

روزانہ تین بار ہے ورزش دبرائیں۔

زیادہ طاقت آئے پر - پانچویں سے چودبیوں دن تک
اب آپ کو اپنے پیلوک فلور کے پڑھوں کی ورزش کرتے ہوئے زیادہ اعتماد محسوس ہو گا اور آپ بہار بار ورزش کرتے ہوئے زیادہ محنت کرنا شروع کر سکتی ہیں۔

کمر پر لیٹ جائیں (جیسے اوپر دکھایا گیا ہے) یا باتھوں اور گھٹھوں کے بل خود کو ٹکا لیں۔



اپنے فرج اور مقعد کے گرد پڑھوں کو زیادہ سے زیادہ کسیں، آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کے اندر پیلوک فلور کے پڑھے "اوپر اٹھ رہے ہیں۔ تین سے چھ سیکنڈ تک کسے رکھیں، پھر ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپکو لگنا چاہیے کہ پڑھوں نے "گرفت کھول دی ہے۔" 10 بار دبرائیں اور ہر دفعہ دربانے کے بعد پانچ سیکنڈ آرام کریں۔

روزانہ تین بار ہے ورزش دبرائیں۔

دی ویمنز کی مربضاوں کے لیے

آپکی خبرگیری کے لیے اپنائٹمنٹس اہم ہیں۔ ان ملاقاتوں میں آپ سے مثانے اور بڑی آنت کے فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپکو جنسی فعل دوبارہ شروع کرنے یا مستقبل میں حاملہ ہونے کے بارے میں سوالات پوچھنے کا موقع ملے گا۔

- بعد از ولادت فزیوتھر اپی کلاس فزیوتھر اپسٹ آپکو معلومات دے گا/گی اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ان کا جواب دے گا/گی۔

- پیرینیئل کلینک - فزیوتھر اپی اپنائٹمنٹ فزیوتھر اپسٹ آپکی کیفیت کا جائزہ لے گا/گی اور حالی صحت اور آپ کے اہداف پر آپ سے بات کرے گا/گی۔

- پیرینیئل کلینک - یوروگانٹاکالوجسٹ اپنائٹمنٹ ڈاکٹر آپکی کیفیت کا جائزہ لے گا/گی اور اگر آپکو کوئی فکر ہو تو اس پر آپ سے بات کرے گا/گی۔ شاید التراسوں سے چیک کیا جائے کہ ٹیئر کس حد تک مندل ہوا ہے۔

یہ ایک اہم معائنہ ہے اور بمارا مشورہ ہے کہ چاہے آپ کو لگتا ہو آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں، پھر بھی بمارے پاس آئیں۔

اگر آپکو اپنی اپنائٹمنٹ کے اوقات نہیں ملے ہیں تو براہ مہربانی پیرینیئل کلینک سے رابطہ کریں۔

اگر آپکو مزید معلومات یا مشورے کی ضرورت ہے

فزیوتھر اپی ڈبیارٹمنٹ

فون: (03) 8345 3160

پیر تا جمعہ صبح 8.30 سے شام 5.00 بجے

پیرینیئل کلینک

فون: (03) 8345 3144

پیر تا جمعہ صبح 8.30 سے شام 5.00 بجے

اعلان دستبرداری یہ معلوماً بہری چصر ہف معمومہ معلومات اوفیڈکر مایم۔ باقی اور بله چھ کی صحت کو دیکھ بھال کیوں و صوریات کے بارے میں خاص معلومات کے لیے آپکو بله طبی ماہر سے مشورہ حلذکر بنا جائیں۔ رئال میونسپل اسپیتی آپکے طبی ماہر سے ملنے کو جباری اس معلوماً تی پر جنری رخصار کیور کے سیمی بیش لالہ والی محوری یا نقصان کی ذمہ دار بیالک بقوہ ہنل تین کرنا۔ اگر آپکو یا آپکے بکچھو فوری طبی مدد کی ضرورت تیباً باہ رمہ بہا جانی ہے قرابیم بر جنسی ڈبیارٹمنٹ سے رطبایکر ہیں۔ © رئال پیمر اسپیتی 2020